

## \*برامپٹن میں ایسٹر ویکینڈ 2019

برامپٹن، آن (15 اپریل 2019) - اس سال گڈ فرائیڈے بروز جمعہ مورخہ 19 اپریل کو اور ایسٹر منڈے بروز پیر مورخہ 22 اپریل کو منایا جا رہا ہے۔

لہذا، اس دن سٹی کی بہت سی خدمات دستیاب نہیں ہوں گی یا معمول سے کم کی سطح پر کام کریں گی۔

برامپٹن سٹی ہال 19 تا 22 اپریل تک بند رہے گا، دونوں تاریخیں شامل ہیں۔ شہری اس وقت کے دوران خود آ کر شادی کے لائسنس کے لیے درخواست دینے، عدالتی شادی کی تقریبات بک کرنے، غلط پارکنگ پر جرمانہ بھرنے یا پرمٹس کے لیے درخواست دینے یا کاروباری لائسنس کی تجدید کروانے یا درخواست دینے کے قابل نہیں ہوں گے۔

کئی خدمات معمول کے مطابق کرنا جاری رکھیں گی، بشمول فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اور سٹی آف برامپٹن ہائی لاء انفورسمنٹ۔

ایسٹر ویکینڈ کی سرگرمیوں کی مکمل فہرست کے لیے، براہ کرم سروس برامپٹن کو 311 پر کال کریں یا [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

### برامپٹن ٹرانزٹ

ایسٹر ویکینڈ کے موقع پر برامپٹن ٹرانزٹ درج ذیل شیڈول کے مطابق چلے گی۔

- 19 اپریل: گڈ فرائی ڈے - اتوار/چھٹی کی سروس
- 20 اپریل: ہفتہ - ہفتہ کے دن کی عمومی سروس
- 21 اپریل: ایسٹر سنڈے - عمومی اتوار/چھٹی کی عمومی سروس
- 22 اپریل: ایسٹر منڈے - ہفتے کے دنوں کی عمومی سروس (اسکول کے راستوں پر نہیں چلے گی)

گڈ فرائی ڈے اور ایسٹر سنڈے کے موقع پر ہمارے ٹرمینلز پر کسٹمر سروس کاؤنٹرز بند رہیں گے۔

روٹ اور شیڈول کی معلومات کے لیے 905.874.2999 پر کال کریں یا [www.bramptontransit.com](http://www.bramptontransit.com) ملاحظہ کریں۔ اگلی بس کے براہ راست اوقات کی معلومات کے لیے اپنے اسمارٹ فون یا دیگر موبائل ڈیوائس پر [nextride.brampton.ca](http://nextride.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔ سفر کی منصوبہ بندی کے دیگر ٹولز کے لیے [www.triplinx.ca](http://www.triplinx.ca) یا گوگل میپس ملاحظہ کریں۔

### برامپٹن ریکریٹیشن

تفریحی مراکز اپنے معمول سے کم سطح پر کام کریں گے۔ اوقات کار اور پروگراموں کے تازہ ترین شیڈولز کی معلومات کے لیے اپنے مقامی تفریحی مرکز کو فون کریں، 311 پر کال کریں یا [www.brampton.ca/recreation](http://www.brampton.ca/recreation) ملاحظہ کریں۔ شہر کا ریکریٹیشن ایڈمنسٹریشن آفس گڈ فرائی ڈے اور ایسٹر منڈے کے موقع پر بند رہے گا۔

### منی مو فارم پر ایسٹر

بروز ہفتہ مورخہ 20 اپریل کو دن 1 تا 4 بجے تک دلکش سرگرمیوں اور مفت تحائف کے لیے [www.brampton.ca/recreation](http://www.brampton.ca/recreation) پر کال کریں یا [www.brampton.ca/recreation](http://www.brampton.ca/recreation) ملاحظہ کریں۔ شہر کا ریکریٹیشن ایڈمنسٹریشن آفس گڈ فرائی ڈے اور ایسٹر منڈے کے موقع پر بند رہے گا۔

**برامپٹن اینیمل سروسز**

برامپٹن اینیمل شیلٹر گڈ فرائیڈے، ایسٹر سنڈے اور ایسٹر منڈے کے دنوں کے دوران بند رہے گا۔ برامپٹن اینیمل سروسز کے بارے میں مزید معلومات کے لیے 905.458.5800 پر یا 311 پر کال کریں یا [www.brampton.ca/animalservices](http://www.brampton.ca/animalservices) ملاحظہ کریں۔

**برامپٹن لائبریری**

گڈ فرائیڈے اور ایسٹر سنڈے کے موقع پر برامپٹن لائبریری کی تمام شاخیں بند رہیں گی۔ مزید معلومات کے لیے 905.793.4636 پر یا 311 پر کال کریں یا [www.bramptonlibrary.com](http://www.bramptonlibrary.com) ملاحظہ کریں۔

30--

**میڈیا کنٹیکٹ**

مونیکا ڈوگال  
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ  
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن  
سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)